



سوال

سوال میں بیس برس کا نوجوان ہوں اور میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، کچھ برس قبل والد صاحب فوت ہو گئے اور اکثر ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ پڑیں، آپ کو علم ہونا چاہئے کہ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے لیکن وہ معذور اور عاجز ہے، کچھ ایام قبل میری نفسیاتی حالت پریشانی میں بدل گئی اور مجھے ہر وقت موت اور بیماری کا خدشہ ہٹنے لگا، اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی کہ مجھے عنقریب موت آ جائے گی اور اس طرح کے دوسرے عجیب و غریب افکار اور سوچیں گھیرے رکھتیں تھیں میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ: مجھے پریشانی اور غم جیسی مشکلات کا سامنا ہے اور مجھے دوائی بھی دی لیکن میں نے یہ دوائی استعمال نہیں کی اللہ میں نے اسلامی احکام پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اللہ عزوجل کی جانب رجوع کیا اور اس کے سامنے گڑگڑایا، اللہ قرآن مجید کی تلاوت اور مسجد میں نماز کی ادائیگی سے اب میری حالت پہلے سے بہتر ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا میری حالت اس کی متقاضی ہے کہ میں دوائی استعمال کروں یا نہ؟ اور کیا یہ شیطان کی جانب سے ہے یا ایک عضوی مرض ہے؟

جواب

الحمد للہ

مومن شخص اپنے رب سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ عزوجل ہی نفسِ حینے اور نقصان سے بچانے والا ہے لہذا آپ کا اللہ عزوجل کی طرف التجا کرنا اور اس کی جانب رجوع کرنا ایک صحیح اور بہتر عمل ہے۔
یہ یاد رکھیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور یہ حق ہے اللہ عزوجل نے ہر نفس کے لیے موت لکھ رکھی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر مر جائے گا، فرمان باری تعالیٰ ہے:

ہر نفس نے موت کا ذاتی چکھنا ہے آل عمران (185).

انسان جتنے بھی اسباب مہیا کر لے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی موت کا فیصلہ ٹال نہیں سکتا

خوف کے لائق نہیں کہ وہ بندے کو اطاعت و فرمانبرداری سے روک دے بلکہ اس کا برعکس ہی صحیح اور درست ہے، لہذا خوف اور ڈر ہی اسے اطاعت و فرمانبرداری کی جانب چلاتا اور اسے عبادت پر ابھارتا ہے، اور ابنِ قدامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق خوف ہی اللہ تعالیٰ کا کوڑا ہے جو اس کے بندوں کو علم اور عمل پر مواظبت اور ہمیشگی کرنے کی طرف چلاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ اور مرتبہ حاصل کر سکیں

اور بعض اوقات خوف اور ڈر بندے کو غم اور پریشانی اور بیماری تک لے جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی تک بھی لے جاتا ہے، تو پھر ایسا خوف اور ڈر جو اس کا سبب بنے وہ قابلِ تعریف نہیں بلکہ قابلِ مذمت ہے

اور یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سی پریشانیاں اور نفسیاتی دباؤ کا سبب عدم رضامندی ہوتی ہے لہذا بعض اوقات وہ کچھ ہو جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، حتیٰ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہو جانے اور مل جانے کے باوجود بھی مکمل اور پوری خوشی نہیں دیتا جس کی ہمیں امید ہوتی ہے، لہذا اس کے پورا ہونے سے قبل ہم نے جس صورت کا خیال کر رکھا ہوتا ہے وہ واقع ہونے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے

حتیٰ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس کے ہو جانے کے بعد ہم پریشانی اور قلق کا شکار ہو جاتے اور اس نعمت کے زائل ہو جانے کا خوف شدید ہو جاتا ہے، لہذا اس کا علاج سوائے اللہ تعالیٰ کی



رضا اور اس کے فیصلے پر راضی ہونے کے اور کچھ نہیں اور اس کی نعمت پر شکر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور مصائب مقدر میں کی ہیں ان پر صبر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے

اور ہو سکتا ہے آپ کی حالت ڈاکٹر کی محتاج ہو، لیکن آپ یہ علم ہونا چاہیے کہ اکثر لوگوں کے امراض اور بیماریاں عضوی بیماریاں نہیں بلکہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جو اعضاء اور جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں

ڈاکٹر فیزکا کنا ہے :

ہر پانچ مریضوں میں سے چار مریضوں پر دوسرے کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی بیماری کی علت اور سبب بالکل عضوی بیماری نہیں بلکہ ان کا مرض خوف اور پریشانی اور غیض و غضب، مستحکم ترجیح اور زندگی اور اپنے نفس کے مابین موافقت کرنے سے عاجز ہونے کی بنا پر پیدا شدہ ہیں "

لہذا دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا پنے بیٹے یوسف علیہ السلام پر رونے نے ان کی آنکھوں کی بینائی تک بھین لی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہتان کی وجہ سے کس طرح غم پہنچا کہ وہ رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں "مجھے ایسے لگا کہ غم اور پریشانی میرے جگر کو چیر کر رکھ دے گی" متفق علیہ

ڈاکٹر حسان شمس پاشا کہتا ہے :

پریشانی اور غم کی حالت میں خون میں ایسا مادہ زیادہ ہو جاتا ہے جسے "ڈریٹلین" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جس کی بنا پر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور انسان دھڑکن کی شکایت کرنے لگتا ہے یا پھر اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں کوئی پھینچے ہی کھینچی چلی جا رہی ہے

اور دل میں کئی قسم کے گمان اور خیالات کرنے لگتا اور ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھاگتا پھرتا ہے حالانکہ اس کے دل کو کوئی بیماری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے صرف اتنا ہے کہ وہ معدے میں درد اور بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے اور اس کے پیشاب میں بے قاعدگی یا اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اھ

انتہی

لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنا ایمان قوی و مضبوط کریں اور شرعی اذکار اور دعائیں باقاعدگی کے ساتھ کیا کریں کیونکہ دل کی پریشانیوں کو ختم کرنے اور اس کے علاج کے لیے سب سے بہتر اور شرعی دعائیں اور اذکار ہی ہیں ان سے نفس کے غم اور پریشانیوں کو دور ہو جاتی ہیں

اس باب میں نبوی دعاؤں میں سے چند ایک یہ ہیں :

1- انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے :

"اللهم انی آعوذ بک من الهم والحزن والعجز والحسل والبخل و ضلع الدین وغلبہ الرجال"

اے اللہ میں پریشانی اور غم اور عجز اور سستی اور بزدلی اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح بخاری (6008)

ضلع الدین کا معنی قرض کا غلبہ اور بوجھ ہے

2- عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :



"جس کسی کو بھی کوئی غم اور پریشانی پیش آئے تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ آسانی پیدا فرما دے گا:

"اللهم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک، أسألک بكل اسم ہوک سمیت به نفسک أو علمته أحد أمن خلقک أو أنزلته فی کتابک أو استأثرت به فی علم الغیب عندک أن تجعل القرآن ریحاً قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی"

اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے مجھ میں تیرا حکم جاری ہے میرے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہے، میں ہر اس اسم کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے خود رکھا ہے یا اپنی کسی مخلوق کو سکھایا ہے یا پھر اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اسے اپنے پاس علم غیب میں پوشیدہ رکھا ہے کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا اور میرے سینہ کا نور اور میرے غم اور پریشانی کا دور کرنے کا باعث بنا

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرض کی گئی اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے دوسروں کا نہ سکھائیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"کیوں نہیں جو بھی اسے سنے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے سکھائے" مسند احمد حدیث نمبر (3704). علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو السلسلۃ الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے دیکھیں: حدیث نمبر (199).

3- سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ دعا کی تھی:

"لا إله إلا أنت سبحانک انی کنت من الظالمین" تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو پاک ہے بلاشبہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں

جو مسلمان شخص بھی کسی معاملہ میں یہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے دیکھیں: جامع ترمذی حدیث نمبر (3505). علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے دیکھیں حدیث نمبر (3383).

اس کی اہمیت اور تفصیل معلوم کرنے کے لیے سوال نمبر (21677) کے جوابات کو ضرور دیکھیں

واللہ اعلم.

اسلام سوال و جواب

فتویٰ نمبر: 45847